

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ

پریس ریلیز

21 جولائی 2020

**جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پری پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولی اساتذہ کے لئے  
آن لائن ٹیچنگ ورکشاپ کا آغاز**

آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پری پرائمری اور ابتدائی سطح کے اسکولوں سے  
وابستہ اساتذہ کے لئے تین روزہ آن لائن ورکشاپ کا بحسن و خوبی آغاز ہوا۔  
ورکشاپ کا مقصد اساتذہ کو آن لائن تعلیم اور اس سے خاطر خواہ استفادہ کیسے  
اٹھایا جائے اس کی تفصیلات فراہم کرنا ہے۔

پروفیسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنے افتتاحی  
خطاب میں کہا اس وقت تعلیم و تدریس کا عمل ایک غیر معمولی دور سے  
گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تعلیم کے لئے تین چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں  
ریڈنگ ، رائٹنگ اور ارتھ میٹک اور ارتھ میٹک میں جدید تکنالوجی سے آگاہی  
شامل ہے۔ انہوں نے تعلیم کے لئے تکنالوجی کے استعمال کو نا گزیر قرار  
دیتے ہوئے کہا جامعہ ملیہ اسلامیہ اپنے اساتذہ کو اسی سے ہم آہنگ کرنے  
کے لئے اس طرح کے ورکشاپ کا انعقاد کر رہی ہے۔

پروفیسر اعجاز مسیح ، ڈین ، فیکلٹی آف ایجوکیشن ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے  
اپنے افتتاحی خطبے میں موجودہ وقت میں ، اساتذہ کی ضرورت اور اہمیت پر  
روشی ڈالتے ہوئے کہا تعلیم ایک نئے دور سے گذر رہی ہے جس میں  
تکنالوجی کا اہم رول ہے ، انہوں نے کہا نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے لئے  
ضروری ہے کہ تکنالوجی سے خود کو جوڑا جائے اور تعلیم کے لئے اسے  
کیسے مفید بنایا جائے ، اس پر توجہ دی جائے۔

آج کے سیشنز میں پروفیسر اندو کمار (سی آئی ای ٹی) ، ڈاکٹر راجیش کمار  
(پرنسپل ڈی آئی ای ٹی ، دریاگنج) ، پروفیسر انویم ابوجا (این سی ای آر ٹی) ،  
اور ڈاکٹر کاظم نقوی (آفیشیٹنگ ڈائریکٹر ، سی آئی ای ٹی ، جامعہ ملیہ اسلامیہ )  
نے اپنے ذریعہ خیالات و تجربات سے شرکاء کو روشناس کرایا۔

ورکشاپ کا انعقاد ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ جس میں یونیورسٹی کے زیر انتظام مختلف اسکولوں کے 100 سے زیادہ پری پرائمری اور ایلیمنٹری سطح کے اسکولی اساتذہ حصہ لے رہے ہیں اور اس تربیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

ورکشاپ کا انتظام و انصرام ڈاکٹر سویتا کوشل اور ڈاکٹر ارم خان آئی اے ایس ای ، فیکلٹی آف ایجوکیشن جامعہ ملیہ اسلامیہ کر رہی ہیں۔

**احمد عظیم**

پی ار او - میڈیا کوآرڈینیٹر